

برائے فوری اجراء

برامپٹن میں منعقد ہونے والی 14 گھنٹوں پر مشتمل ہیکاتھن میں طلباء نے بہترین جوہر دکھائے

یہ تقریب ویکینڈ کے دوران برامپٹن میں ٹیکنیکل بنیاد پر منعقد ہونے والی تین تقریبات میں سے ایک تھی۔

برامپٹن، آن (26 مارچ 2019) - بروز اتوار مورخہ 24 مارچ کو وولفہیکس ہیکاتھن (Wolfhacks hackathon) میں شرکت کرنے کے لیے پورے GTA سے 140 سے زائد طلباء، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور تکنیکی پس منظر کے حامل کئی درجن شائقین برامیلا سٹی سنٹر میں جمع ہوئے۔

سٹی آف برامپٹن اور چنگواکوسی سیکنڈری اسکول کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والی سالانہ ہیکاتھن کے دوسرے ایڈیشن میں 14 گھنٹوں پر مشتمل مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے گریڈز 8 تا 12 تک کے طلباء پر مشتمل 30 ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ طلباء نے مختلف شعبوں مثلاً سائبرسیکورٹی، آرٹس، ویسٹ منیجمنٹ اور نووارد ملازمین کے حوالے سے پرجت اور تکنیکی بنیادوں پر مبنی حل ڈیزائن کیے اور ان کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ مختلف زمروں میں انعامات تقسیم کیے گئے، بشمول بیسٹ بیگنر ہیک اور بیسٹ سوشل/انوائرنمنٹل امپیکٹ۔

ایزی پل (EasyPill) کو اول انعام سے نوازا گیا، جو ایک ڈیوائس ہے جس کو ڈیمنٹیا کے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ گیجٹ مریض کے شیڈول کے مطابق خودکار طریقے سے مریض کی مدد کرتا ہے اور اس کو موبائل ایپ کے استعمال کے ذریعے آسانی سے منتظم کیا جا سکتا ہے۔

انعام کے ایک حصے کے طور پر، ایزی پل کی ٹیم کو 13 تا 15 ستمبر 2019 کو کینیڈا کی سب سے بڑی ہیکاتھن یعنی ہیک دی نارٹھ میں شامل ہونے کے لیے بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اس تقریب کی میزبانی یونیورسٹی آف واٹرلو کرے گی۔

اس ویکینڈ کے دوران سٹی نے 'کافی این کوڈ' کی دو تقریبات کی میزبانی بھی کی ہے جو برامپٹن لائبریری کی اسپرنگ ٹیل برانچ اور پلیکس سافٹ ویئر آفس میں منعقد کی گئیں۔ 'کافی این کوڈ' سٹی کی جانب سے کمپیوٹر پروگرامنگ کا ایک عمومی پروگرام ہے جس کا مقصد برامپٹن میں ماحولیاتی تحفظ کو معاونت فراہم کرنا ہے۔

برامپٹن کی ٹیکنیکل کمیونٹی سے وابستگی کے خواہشمند خواتین و حضرات کا خیرمقدم کیا جاتا ہے کہ وہ سٹی کے سلیک چینل bramptoncity.slack.com میں شمولیت اختیار کریں۔

اقتباسات

"ہیکاتھن کے اس ایڈیشن میں بڑی دلچسپ ترغیب موجود تھی جس نے پورے GTA سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوانوں کی صلاحیتوں کو خوب اجاگر کیا ہے۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں کئی تنظیموں نے مل جل کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ، چنگواکوسی سیکنڈری اسکول اور برامیلا سٹی سنٹر کا ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سٹی نہ صرف برامپٹن بلکہ ہمارے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی انٹریپرائز اور اختراعی افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسی تقریبات منعقد کرنے والی تنظیموں کی سرپرستی کرنا جاری رکھے گا۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ایک خالی سیٹرز اسٹور میں پرجوش نوجوانوں کے لیے منعقد ہونے والی ہیکاتھن، نے ان جوشیلے نوجوانوں میں موجود جوش و جذبہ کا برملا اظہار کیا۔ کیونکہ طلباء معاشرے کو تسلسل سے درپیش کچھ مسائل کا مداوا کرنے کے اکتھے ہوئے تھے، تو انہیں ایک ہی جگہ پر ایسے اکتھا دیکھنا انتہائی خوشگوار محسوس ہوا۔"

- ڈیون ریمال، ایکننگ سینٹر منیجر، اکنامک ڈیولپمنٹ آفس

30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca